

## برامپٹن سٹیزن ایوارڈز کے ذریعے شہریوں کی نمایاں خدمات کو سراہا جا رہا ہے

برامپٹن، آن (12 مئی 2022) – سٹی آف برامپٹن 2021 میں شاندار کامیابیاں حاصل کرنے والے کمیونٹی ایتھلیٹس، رضاکاروں اور مقامی ہیروز کی خدمات کو تسلیم کرتا ہے اور ان کے کارناموں کی بھرپور خوشیاں مناتا ہے۔

برامپٹن سٹیزنز ایسے رہائشیوں کی خدمات کو تسلیم کرتے ہیں، جنہوں نے کسی قسم کی مفید کاوشیں کی ہوں یا 2021 کے تقویمی سال کے دوران درج ذیل زمروں میں سے کسی ایک میں بڑی کامیابی حاصل کی ہو:

- **سیورٹس اچیومنٹ ایوارڈ** کے ذریعے برامپٹن کے ایسے رہائشیوں اور ٹیموں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جنہوں نے صوبائی، قومی یا بین الاقوامی سطح پر کوئی شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔
- **کین جانلز امیجور ایتھلیٹ آف دی اینر ایوارڈ** یہ ایوارڈ برامپٹن گارڈین اخبار کی شراکت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، جس میں ایسے لوگوں کی خدمات کا اعتراف کیا جاتا ہے جنہوں نے کھیلوں کے اپنے متعلقہ شعبوں میں روایت سے ہٹ کر کسی غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہو۔
- **آرٹس اکلیم ایوارڈ** کے ذریعے ایسے افراد کی کاوشوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جنہوں نے مقامی، صوبائی، قومی یا بین الاقوامی سطح پر فن کے کسی شعبے میں اپنا لوہا منوایا ہو۔
- **لانگ ٹرم سروس ایوارڈ** کے ذریعے ایسے مخلص رضاکار شہریوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جن کی کاوشوں نے تفریحی کھیلوں، فنون اور کمیونٹی کی سوشل سروسز میں قابل ذکر اثرات مرتب کیے ہوں۔
- **انسپائریشنل ایوارڈ** کے ذریعے برامپٹن کے ایسے شہریوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جو اعلیٰ مشفقانہ اقدار کا پرچار کرتے ہوں اور/یا ان پر عملی کام کرتے ہوں یا ایسے شہری جو دوسروں کے لیے رغبت کا باعث بنے ہوں۔
- **سٹیزن آف دی اینر ایوارڈ** میں ہر عمر کے برامپٹن کے ایسے رضاکاروں کی خدمات کو تسلیم کیا جاتا ہے جنہوں نے 2021 میں ایک پرجوش اور وقف شدہ کمیونٹی شمولیت کا مظاہرہ کیا ہے۔

تمام نامزدگیوں کا جائزہ کمیونٹی ممبران کی سلیکشن کمیٹی کے ذریعے منتخب کردہ عہدیداروں، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، برامپٹن سپورٹس انانس، برامپٹن سینئرز کونسل اور پبل ریجنل پولیس کے ساتھ ایوارڈ کیٹیگریز میں متعلقہ مہارتوں کے حامل ممبران کی جانب سے لیا گیا ہے۔

2021 برامپٹن سٹیزن ایوارڈ حاصل کرنے والوں کی خدمات کو 25 مئی کو روز تھیٹر میں منعقد ہونے والی ایک تقریب میں تسلیم کیا جائے گا۔ [brampton.ca/citizensawards](http://brampton.ca/citizensawards) پر تمام ایوارڈ وصول کنندگان کی فہرست دیکھیں۔

### اقتباسات

"برامپٹن سٹیزن ایوارڈز ہمیں شاندار رہائشیوں اور کھلاڑیوں، فنکاروں، رضاکاروں اور مقامی ہیروز کے طور پر ان کی شراکت کو تسلیم کرنے کا اہم موقع فراہم کرتے ہیں۔ نامزدگیوں کے عمل کو عملی جامہ پہنانے میں مدد دینے والے ہر شخص کا تہہ دل سے شکریہ۔ ایوارڈز فخر پیدا کرتے ہیں، مقامی شہریوں کے قابل فخر کارناموں کو تسلیم کرتے ہیں اور برامپٹن میں ہر ایک کو ہماری کمیونٹی میں اپنا حصہ ڈالنے کی ترغیب دیتے ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"1974 سے یہ ہماری ایک دیرینہ روایت رہی ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کے لوگوں کی اہمیت کو برامپٹن سٹیزن ایوارڈز کے ذریعے تسلیم کرتے ہیں۔ ہم ان رہائشیوں کے کارناموں کا جشن منانے کے لیے پرجوش ہیں جنہوں نے 2021 میں روز تھیٹر

میں نمایاں کام کیے ہیں اور رہائشیوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں مزید جاننے کے لیے [brampton.ca/citizensawards](http://brampton.ca/citizensawards) ملاحظہ کریں"

- مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز 3 اور 4؛ چیئر، سٹیزنز ایوارڈز کمیٹی، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن کے باشندے ہماری کمیونٹی میں ہر روز کوئی نہ کوئی شاندار فرق پیدا کرتے ہیں اور سٹیزنز ایوارڈز ہمیں ان کے جذبے اور کردار کی اہمیت کو تسلیم کرنے کا ایک موقع فراہم کرتے ہیں۔ پورے 2021 میں آپ کے بامعنی تعاون کے لیے تمام وصول کنندگان کا شکریہ۔"

- ہرکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز 9 اور 10؛ چیئر، کوآپریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن ایسے پرجوش اور متاثر کن رہائشیوں سے بھرا ہوا ہے جو ہماری کمیونٹی میں حقیقی تبدیلی لاتے ہیں۔ سٹی آف برامپٹن کو ہمارے 2021 کے برامپٹن سٹیزنز ایوارڈز وصول کنندگان کی شاندار شراکت کو تسلیم کرنے پر فخر ہے۔"

- پال موريسن، ائٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)